

EFU LIFE



EMBRACE WELLNESS



EFU WIN SAVINGS PLAN

EFU Life Cares About Your Wellness

Prioritizing both healthy living and wellness is crucial for living a healthy life, involving the harmony of physical, nutritional and mental health that significantly influences daily life. By encouraging healthy habits, life becomes more enjoyable, leading to enriching experiences.

Discover how you can lead a healthier life with our unique wellness program.

EFU Life WIN - Your Path to Wellness

Introducing our groundbreaking wellness program that puts the power of managing your health and well-being right in your hands!

EFU Life WIN is a data-driven program that assists you in your journey towards living a healthier lifestyle by tracking your physical activity, monitoring your nutritional intake, challenging you to push your limits and offering rewards for accomplishing every milestone. With EFU Life WIN, we aim to empower our customers to take charge of their health, while still enjoying the peace of mind that comes from being protected by Pakistan's leading life insurance company.

EFU Life WIN is your ultimate partner in this journey to a healthier, happier you!

It's not just insurance; it's an exhilarating adventure towards a better you!

Disclosure of Product

This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The Investment Component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

Free Look Period:

If you cancel your policy within a free look period of 14 days from the date of the documents receipt, you are entitled for a full refund of premium less any expenses incurred by EFU Life in connection with our medical or clinical examinations.





dacadoo

OUR HEALTH TECH PARTNER

Dacadoo is a Swiss technology company that specializes in supporting the digital transformation of its customers, including EFU Life through digital person-years of scientific data. Dacadoo has partnered with various life and health insurance carriers across the world and is driving the digital revolution in the health and wellness industry.



About EFU Life WIN Savings Plan

EFU Life WIN Savings Plan not only protects your loved ones in unforeseen circumstances but also allows you to earn rewards and benefits throughout your life by maintaining a healthy lifestyle.

This product is a unit-linked investment plan, different from traditional life insurance. It allows you to invest your premiums in a fund of your choice, emphasizing your financial growth. But it doesn't stop there. With our Wellness feature, you can maximize your rewards, including short-term, medium-term, and long-term policy-linked benefits that encourage healthy living.

This Plan Consists of Two Key Components

Helps you in your Wellness Journey by tracking your lifestyle and rewarding healthy behavior.

Protects your future through insurance.

Wellness

- **EFU Life WIN App**
- **Exciting Rewards**
- **Customized Goals & Challenges**
- **Health Score**
- **Engagement tools**



Protection

- **Insurance Coverage**
- **Maturity Benefits**
- **Investment & Growth**
- **Optional Riders**

A Winning Strategy

The Wellness Wheel makes digital health engagement easier than ever. It is a wellness tool that assesses and visualizes various aspects of an individual's well-being.

Encompassing seven different dedicated areas to track a user's holistic health and offer even more personalized goals. These categories include physical health, mental well-being, physical activity, sleep, mindfulness, nutrition, and self-control.



The Wellness Wheel is used as a self-assessment tool to help individuals identify areas of their life that may require more attention or improvement. By visualizing their well-being in this way, users can set goals and track their progress in different life dimensions, aiming for a more balanced and fulfilling life.

The Health Score

Health Score is a number between 0 and 1,000 that represents overall relative health. This science-based indicator is built on over 300 million person-years of scientific data. It increases or decreases in real-time, depending on how a user’s physical health, emotional wellbeing and lifestyle change over time. The Health Score is divided into 3 categories.



After calculating the Health Score, the following ranges are provided, each corresponding to specific categories, which indicate your initial health status

HEALTH SCORE RANGE	HEALTH SCORE CATEGORY	ACTION REQUIRED
0 - 479	Low	Needs a lot of improvement
480 - 549	Fair	
550 - 609	Good	On the right path for enhancing overall wellness
610 - 679	Very Good	
680 - 1000	Excellent Health Score	Keep up the good work!

Comprehensive Reward Program

EFU Life WIN offers three levels of rewards designed to motivate individuals to commit to a healthier lifestyle. These incentives promote well-being throughout the year, covering 365 days and involving various levels of rewards, starting from the first day of your WIN Membership.

You can earn points through regular tasks or physical activities like daily walks, gym workouts, cycling, etc. Additionally, points can be earned by simply engaging with EFU Life WIN App, which tracks and records your daily routines, including sleep, nutrition, and essential body information. Our app also remembers significant dates in your life and pleasantly surprises you with reward points which contribute to the improvement of your annual **WIN Status**.

Lifestyle & Loyalty Benefits – Wellness in Everyday Life

Enjoy access to special offers and partner discounts through EFU Life WIN – Lite & Ultra, with exclusive

- **WIN Exclusive partnerships with top-tier gyms and wellness brands**
- **Healthy dining, retail and entertainment**
- **Healthcare & diagnostics**
- **Fitness & wellness facilities**



Access to Healthcare, Anytime, Anywhere with mHealth

EFU Life WIN also includes complementary mHealth, a comprehensive telehealth platform designed exclusively for its customers. This digital health solution provides convenient access to medical care and wellness tools anytime you need them.

Key Features of mHealth:

Enjoy complimentary access to EFU Life mHealth services with your EFU Life WIN - Lite & Ultra. No extra cost, just smarter care.

- 24/7 doctor consultations for on-demand medical advice
- Appointment booking with General Physicians, Psychologists, and Nutritionists
- Diagnostic test discounts at Essa and Chughtai Labs
- Integrated Online pharmacy – enjoy discounts and order essential medicines direct within the app
- E-prescriptions, medication reminders, and vitals tracking
- Wellness Hub – A rich library of curated health and wellness content



REWARD LEVELS	TARGET	REWARDS
SHORT TERM REWARD	WIN LITE Complete 100,000 steps Challenge. or Engage in 10 hours of any Physical activity with an "elevated" heart rate, whichever comes first. (These targets are dynamic and can change based on the user's activity level) WIN ULTRA Complete 50,000 steps Challenge. or Engage in 5 hours of any Physical activity with an "elevated" heart rate, whichever comes first. (These targets are dynamic and can change based on the user's activity level)	WIN LITE 2 voucher worth Rs.500 on completing steps or heart rate goals . WIN ULTRA 4 voucher worth Rs.500 on completing steps or heart rate goals .
MEDIUM TERM REWARD	Participants can earn up to 100,000 points annually. These points are earned through physical activity and engagement with the app.	The participant can earn up to 100,000 points and purchase exciting rewards from our online reward store.
LONG TERM REWARD	Max up to 35% membership linked bonuses can be earned depending on the membership term & WIN status.	Based on membership term and annual WIN status achieved at membership anniversary.

Policy Term (Years)	Percentage of Long-Term Policy Linked Bonus based on WIN Status			
	Beginner	Mover	Achiever	Winner
Up to 5 Years	0%	4%	8%	20%
6 to 10 Years	0%	5%	13%	25%
11 to 15 Years	0%	6%	18%	30%
16 to 20 Years	0%	7%	23%	35%

The bonus is accrued at the end of every policy year. The accrued bonuses are a percentage of Main Plan Premium and they are added to the Main Plan Cash Value at the end of every 5th Policy Year.

This benefit is only awarded two policies that have a cover multiple of 10 or Higher.

WIN Status:

The customer can progress through the four levels of EFU Life WIN Program and enjoy a variety of rewards based on how high their WIN status is. The more points you accumulate, the higher your WIN status, the greater the rewards.


Beginner	Mover	Achiever	Winner
			
< 50,000 Points	50,000 Points	70,000 Points	85,000 Points

Your WIN status will be locked after a year. To keep you engaged and motivated year after year, your WIN status begins at the Beginner level, and your points reset to zero at the start of every policy year.

EFU LIFE WIN POINTS YOU CAN EARN IN A YEAR




CUSTOMER WELLNESS JOURNEY



Supported Devices

Physical activities can be tracked through wearable devices. You can sync any of your wearable devices, such as Samsung Gear, Apple Watch, Fitbit, Garmin, Xiaomi, Infinix, Zero, etc., smartwatches, to the app.



About Unit Linked Savings Plan

Important Details

	Eligible Age	18 to 65 years
	Minimum & Maximum Plan Term	10 to 40 years
	Maximum age at Maturity	75 Years
	Minimum Premium	ULTRA - PKR. 250,000 per annum LITE - PKR. 50,000 per annum
	Fund Acceleration Plan	Minimum: PKR. 50,000
	Payment Mode	Annual
	Protection Multiples	5-50 (depending on the age of the policyholder at entry)
	Short Term	Up to PKR. 12,000 annually for LITE Up to PKR. 24,000 annually for ULTRA
	Medium Term	Up to PKR 10,000 annually
	Long Term	Up to 35% annual bonus based on policy term & annual statuses

Death Benefits:

The unfortunate demise of the policyholder (insured person) allows the nominated beneficiaries to receive the death benefit as given:

-  **Till age 55**
Sum assured of the Main Plan + Cash value of units applicable to regular basic plan premium +Cash value of units applicable against Fund Acceleration Premium (FAP) payments (if any)
-  **Age 56 and above**
Sum assured of the main plan OR Cash value of the units applicable to the regular basic plan premium (whichever is higher) Plus Cash value of the units applicable against Fund Acceleration Premium (FAP) payments (if any)

Maturity Benefits:

At the end of the Policy Term, the maturity benefit payable will be:

-  The Total Cash Value of the units allocated against the basic plan premium.
plus
-  The Cash Value of units allocation against FAP (if any)

Optional Benefits

Accidental Death Benefit:*

If death occurs due to accident; this benefit provides an additional lumpsum benefit

Accidental Death and Disability Benefit:*

This rider provides an additional lump sum benefit in case of accidental death or disability.

Additional Term Assurance:

This rider increases the level of life cover by providing an additional amount in the range of 50% to 200% of the Main Plan Sum Assured, in case of death of the Life Assured.

Accidental Death and Disability Benefit Plus:*

This rider provides an additional lump sum benefit in case of an accidental death or disability (permanent & total) that makes you permanently disabled.

Waiver of Premium:

In case the life assured is unable to follow any occupation due to the sickness or accident, the premium would be paid by EFU Life.

Family Income Benefit:

This benefit ensures that a monthly income is paid to the family in case of an unfortunate death of the policy holder (insured person) during the plan term.

***Any one accidental benefit can be selected.**

Fund Acceleration Premium:

If you have surplus cash available at any point of time during the plan term, it can be invested in the plan to enhance your cash value. These additional payments in the plan are called Fund Acceleration Premium payments. You can make these payments at any time while the policy is in force. The minimum FAP payment is Rs. 50,000.

Partial Surrender:

Without surrendering your policy, you can withdraw any amount from your cash value to meet a sudden need. Partial Surrender is allowed subject to residual value of Rs. 250,000.

Complete Surrender:

You may surrender your plan 100% before paying the first two premiums. At the time of surrender, you will be paid the full cash value of your fund. However, surrender in early policy years may result in lower cash value.

Indexation:

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your plan will be automatically updated in line with inflation every year regardless of your health. Once you select this option, the premium will increase every year by 5% of the prior year's premium.

Units Allocation

The proportion of basic plan allocated to investment is as shown in table:

Policy Year	Unit Allocation	Allocation charges*
1	60%	40%
2	80%	20%
3	90%	10%
4 and onwards	100%	0%

***An allocation charge will be deducted from the Paid Premium every year as per the above table and the remainder will be allocated to the customer's account value.**

FAP Allocation 100%

Sum Assured:

This is the amount payable on the unfortunate event of death of the policy holder/life assured. This is equal to the Regular Basic Plan Premium times the protection multiple selected by the policy holder.


The Protection Multiple is subject to limits dependent on the age at commencement. Refer to the table below for further details:

Age	Protection Multiple
18 – 35	5 to 50
36 – 40	5 to 40
41 – 49	5 to 30
50 – 60	5 to 10
61 - 65	5

Opportunity for Growth:

Every premium paid towards the plan will be invested in one of the internal investment funds of EFU Life. It is completely your decision to choose the internal fund based on your investment objectives. You can select from the following unit funds mentioned below:

All available funds are categorized with their risk profiling as per the investment criteria.



Funds	
EFU Managed Growth Fund	EFU Guaranteed Growth Fund*
Fund Categorization: Balanced	Fund Categorization: Money Market Fund
Risk Profile: Medium	Risk Profile: Low
An investment fund with a balanced investment strategy. It aims to achieve reasonable capital growth and steady returns with investment in government securities, carefully selected blue chip equities, and other fixed income securities and cash.	An investment fund providing steady returns with a guarantee that the bid price of the fund will never fail. It aims to achieve stable growth through investment in short term debt securities.
EFU Income Growth Fund*	EFU Aggressive Fund
Fund Categorization: Income Fund	Fund Categorization: Aggressive
Risk Profile: Low	Risk Profile: High
Investment fund providing steady returns. It aims to achieve consistent capital growth with investment in government securities.	An investment fund with the aim of investing the equities providing a higher rate of return. It aims to maximize capital growth by using investments with an aggressive investment strategy.

*Guaranteed Growth Fund to be selected by default

Multiple Fund Options:

Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Fund mix can be selected in multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.:

Charges:

Charges	Rate / PKR
Administration charge	50,000 to 99,999: PKR 750/- per annum 100,000 to 249,999: PKR 1,000 / - per annum 250,000 to 499,999: PKR 1,500/- per annum 500,000 to 999,999: PKR 2,250/- per annum 1000,000 & higher: PKR 3,000/- per annum
Bid/Offer Spread	5% of the net regular premium
Investment Management Charge	1.5% per annum
Fund Switching Fee	PKR 500
Surrender Processing Fee	PKR 500
Surrender Charge	100% before paying the first 2 premiums.
Mortality Charge (Cost of Insurance)	An age-based mortality charge applies for the life insurance risk each year and is dependent on the sum at risk. No mortality charges apply in years where the cash value exceeds sum assured.
Administration & WIN Charge Indexation	Admin Charge and WIN Charge will be indexed 2% annually for illustrative purposes only. These charges will be deducted at Policy level.

Wellness Charge:

Charge	Rate / PKR
Wellness Annual Charge	PKR 5,000 per annum

Automatic Non-Forfeiture Option:

If premium payments are stopped due to any reason after paying two full years' premiums, the Company will keep the basic policy in force for a period of one year from the date of the first unpaid premium. During this one-year period, the Company will cancel enough units to pay for the cost of maintaining the cover and for administration. At the end of this period, if the policy still has a cash value, it will be converted to a "Paid-up" policy. In such a case, no further premiums would be payable and the amount payable on death or maturity will be equal to the Cash Value of the policy. At each policy anniversary, the Company will cancel enough units to pay for the administration charge of maintaining the policy.

A Complete and Exciting Proposition

"EFU Life WIN" presents a holistic solution that seamlessly blends the dependability of traditional insurance with the excitement of embracing well-being. With us, you're not only securing your future but also commencing an exciting journey towards a more robust and lively life. It's a domain where your health and personal advancement sync with an enticing offering.

Disclaimer

- This product is underwritten by EFU Life Assurance Ltd. It is not guaranteed or insured by National Bank of Pakistan or its affiliates and is not a National Bank of Pakistan product. * EFU Life Assurance Ltd will be responsible for settlements of claims to the insured customer(s) or beneficiary(ies).
- National Bank of Pakistan is acting as a distributor/corporate insurance agent on behalf of EFU Life Assurance Ltd and is not and shall not be held responsible in any manner whatsoever to any person, including but not limited to the insured customer(s), beneficiary (ies) or any third party.
- The investment risk of the fund is borne by the policyholder (insured person) and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures.
- The past performance of funds is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither EFU Life Assurance Ltd nor National Bank of Pakistan will incur any liability for the same.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by our sales representative. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Service charges and taxes will be applicable as per the Bank's "Schedule of Charges" and taxation laws as stipulated by the relevant authorities.
- This product brochure gives a general outline of the product features and benefits. A description of how the contract works is given in the policy provisions and conditions..



EFU LIFE



EMBRACE WELLNESS



سیونگنر پلان

EFU لائف آپ کی صحت و تندرستی کا محافظ

صحت مند زندگی گزارنا اور اپنی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا دونوں انتہائی اہم ہیں جس میں جسمانی، غذائی اور ذہنی صحت کا توازن شامل ہے، جو آپ کی روزمرہ زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب ہم صحت مند عادات اپناتے ہیں، تو زندگی زیادہ خوشگوار اور تجربہ بات زیادہ خوبصورت بن جاتے ہیں۔

ہمارے خصوصی ویلنس پروگرام کے ذریعے جانیں کہ آپ کیسے اپنی زندگی کو مزید صحت مند بنا سکتے ہیں۔

EFU لائف WIN-آپ کی فلاح و بہبود کا راستہ

ہم آپ کے لئے ایک نیا اور بہترین ویلنس پروگرام متعارف کرا رہے ہیں جو آپ کی صحت اور فلاح و بہبود کا خیال رکھنے کا اختیار آپ کو دیتا ہے! EFU لائف WIN ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کی صحت مند طرز زندگی کے سفر میں آپ کی معاونت کرتا ہے اور آپ کی جسمانی سرگرمیوں کو ماہٹر کرتا ہے، آپ کی غذائی عادات کو جانچتا ہے، اور آپ کو اپنی حد سے تجاوز کرنے کا چیلنج دیتا ہے، جس میں ہر کامیابی پر آپ کو ریوارڈ بھی ملتے ہیں۔ EFU لائف WIN کے ذریعے ہمارا مقصد اپنے صارفین کو با اختیار بنانا ہے تاکہ وہ اپنی صحت کو خود بہتر بنانے کا موقع دیں، اس کے ساتھ ہی آپ کو پاکستان کی معروف انشورنس کمپنی کے تحفظ کا اطمینان بھی حاصل رہتا ہے۔

EFU لائف WIN آپ کو ایک صحت مند اور خوشحال زندگی کی جانب مائل کرنے میں آپ کا بہترین ساتھی ہے!

یہ صرف انشورنس نہیں ہے؛ یہ ایک بہتر اور صحت مند زندگی کی جانب ایک دلچسپ سفر ہے!

پروڈکٹ کا انکشاف:

یہ ایک لائف انشورنس پروڈکٹ ہے جس میں دو مختلف عناصر شامل ہیں: انشورنس پروفیکشن اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری کا حصہ یونٹ سے منسلک فنڈز کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی کی بنیاد پر ہے۔

فری لک پیریڈ:

اگر آپ دستاویزات کی وصولی کی تاریخ سے 14 دن کے فری لک پیریڈ کے اندر اپنی پالیسی منسوخ کرتے ہیں، تو EFU Life آپ کی جانب سے طبی یا کلینیکل معائنوں سے متعلقہ اخراجات تفریق کرنے کے بعد آپ پر بیمہ کی مکمل رقم واپسی کے حقدار ہوں گے۔





dacadoo

ہمارا ہیلتھ ٹیک پارٹنر

Dacadoo ایک سانس ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو اپنے صارفین، بشمول EFU لائف کی ڈیجیٹل تبدیلی کی معاونت میں مہارت رکھتی ہے، جو سائنسی ڈیٹا کے ڈیجیٹل شخصی سالوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ Dacadoo نے دنیا بھر میں متعدد لائف اور ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کی ہے اور بہبود کے شعبے میں ڈیجیٹل انقلاب لا رہا ہے۔



EFU لائف WIN سیونگنر پلان سے متعلق

EFU لائف WIN سیونگنر پلان نہ صرف آپ کے پیاروں کی غیر متوقع حالات میں تحفظ دیتا ہے بلکہ آپ کو ایک صحت مند طرز زندگی برقرار رکھنے کے ذریعے زندگی بھر ریوارڈز اور فوائد حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔

یہ پروڈکٹ پونٹ سے منسلک سرمایہ کاری منصوبہ ہے، جو روایتی لائف انشورنس سے مختلف ہے۔ یہ آپ کو آپ کی مرضی کے فنڈ میں اپنے پرمیجر کی سرمایہ کاری کرنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ آپ کی مالی ترقی میں اضافہ ہو۔ لیکن صرف یہی نہیں، ہمارے ویلنٹینس فیچر کے ساتھ، آپ اپنے ریوارڈز کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، بشمول قلیل مدتی، وسط مدتی، اور طویل مدتی پالیسی سے منسلک فوائد جو صحت مند زندگی کو فروغ دیتے ہیں۔

یہ پلان 2 اہم حصوں پر مشتمل ہے

- آپ کی طرز زندگی سے واقفیت حاصل کر کے صحت مند رویے کی حوصلہ افزائی کے ذریعے آپ کے صحت مند سفر میں معاونت کرتا ہے۔
- انشورنس کے ذریعے آپ کے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے۔

پروٹیکشن

- انشورنس کوریج
- میچورٹی کے فوائد
- سرمایہ کاری اور گروتھ
- اختیاری رائڈرز



ویلنٹینس

- EFU لائف WIN ایپ
- زبردست ریوارڈز
- کسٹمائزڈ اہداف اور چیلنجز
- ہیلتھ اسکور
- انکریمنٹ ٹولز

ایک فاتح حکمت عملی

ویلنٹینس ویل ڈیجیٹل صحت کی شمولیت کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ یہ ایک جدید صحت کا ٹول ہے جو ایک فرد کی فلاح و بہبود کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرتا ہے اور انہیں بصری انداز میں پیش کرتا ہے۔



یہ سات مخصوص عناصر کا احاطہ کرتا ہے جو صارف کی جامع صحت کی نگرانی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور مزید ذاتی نوعیت کے اہداف فراہم کرتے ہیں۔ ان کیلکریز میں جسمانی صحت، ذہنی صحت، جسمانی سرگرمی، نیند، ذہن سازی، خود پر قابو، اور غذائیت شامل ہیں۔

ویٹنس ویل ایک خود تشخیصی ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو افراد کو اُن کی زندگی کے اُن پہلوؤں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے جن پر مزید توجہ یا بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اپنی فلاح و بہبود کو خود تشخیصی انداز میں دیکھ کر، صارفین اپنے اہداف طے کر سکتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں، جس کا مقصد ایک زیادہ متوازن اور اطمینان بخش زندگی کا حصول ہے۔

ہیلتھ اسکور

ہیلتھ اسکور 0 سے 1,000 کے درمیان ایک عدد ہے جو مجموعی طور پر صحت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سائنسی بنیادوں پر تیار کیا گیا پیمانہ ہے جو 300 ملین سے زائد انسانی سالوں پر مبنی سائنسی ڈیٹا سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ ریٹل ٹائم میں بڑھتا یا کم ہوتا ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ صارف کی جسمانی صحت، جذباتی خوشحالی، اور طرز زندگی میں وقت کے ساتھ کیسا فرق آتا ہے۔ ہیلتھ اسکور کو 3 کیلنگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔



ہیلتھ اسکور کا حساب لگانے کے بعد درج ذیل رینج پیش کی جاتی ہیں، جو مخصوص کیلنگریز کے مطابق ہوتی ہیں اور آپ کی ابتدائی صحت کی صورت حال کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ضروری درکار عمل	ہیلتھ اسکور کیلنگری	ہیلتھ اسکور رینج
بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے	کم درجے پر	0 - 479
	بہتر	480 - 549
مجموعی صحت و تندرستی کے لئے درست راہ پر	اچھا	550 - 609
	بہت اچھا	610 - 679
اچھی طرز زندگی کو جاری رکھیں!	بہترین ہیلتھ اسکور	680 - 1000

جامع ریوارڈ پروگرام

EFU Life WIN ریوارڈز کے 3 درجے پیش کرتا ہے جو افراد کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ یہ محرکات سال بھر، یعنی 365 دنوں تک، فلاح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں اور ریوارڈز کے متعدد درجہ جات کا احاطہ کرتے ہیں، جن کا آغاز آپ کی WIN ممبر شپ کے پہلے دن سے ہوتا ہے۔

آپ روزمرہ کے کاموں یا جسمانی سرگرمیوں جیسے روزانہ کی چہل قدمی، جم کی ورزش، سائیکلنگ وغیرہ کے ذریعے پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ EFU Life WIN ایپ کے ساتھ صرف مصروف عمل ہونے کے ذریعے بھی پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کے روزمرہ کے معمولات، بشمول نیند، غذا، اور جسم کی اہم معلومات کو ٹریک اور ریکارڈ کرتی ہے۔ ہماری ایپ آپ کی زندگی کی اہم تاریخوں کو بھی یاد رکھتی ہے اور آپ کو ریوارڈز پوائنٹس دے کر خوشگوار طور پر سرپرائز دیتی ہے، جو آپ کی سالانہ WIN Status کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔

طرز زندگی اور اعتماد کے فوائد۔ روزمرہ زندگی میں خوشگوار صحت۔

ای ایف یو لائف WIN – Lite اور Ultra کے ذریعے خصوصی آفرز اور مارنٹرز کا ڈسکاؤنٹس تک رسائی حاصل کریں، جن میں شامل ہیں:

- WIN کے خصوصی معاہدے معروف جڑ اور ویلنٹس برانڈز کے ساتھ
- صحت بخش کھانے، ریٹیل اور تفریحی مواقع
- ہیلتھ کیئر اور ڈائیکو سٹکس
- فٹنس اور ویلنٹس فیلٹیز



ایم ہیلتھ کی سہولت کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال، ہر وقت، ہر جگہ

ای ایف یو لائف WIN میں ایم ہیلتھ کی سہولت بھی شامل ہے، جو ایک مکمل ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم ہے اور خاص طور پر ہمارے صارفین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ہیلتھ سروس آپ کو کسی بھی وقت طبی مشورے اور ویلنٹس ٹولز تک آسان رسائی فراہم کرتی ہے۔

mHealth کی نمایاں خصوصیات:

ای ایف یو لائف WIN – Lite اور Ultra کے ساتھ مفت ایم ہیلتھ سروس کا فائدہ اٹھائیں۔ کوئی اضافی خرچ نہیں، بس بہتر دیکھ بھال۔

- دن رات کسی بھی وقت ڈاکٹر سے مشورہ
- جنرل فزیشنز، سائیکا لو جسٹ اور نیوٹریشنٹ سے اپائنٹمنٹ کی سہولت
- عیسیٰ اور چغتائی لیجز پریسیٹ کے لیے رعایت
- ایپ کے ذریعے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دوا کی آن لائن خریداری
- ای-پریسکرپشنز، دواؤں کی یاد دہانی، اور وائٹلز ٹریکنگ
- ویلنٹس جب-صحت اور تندرستی سے متعلق معلومات پر مبنی منتخب لائبریری



ریوارڈز کے لیولز	ٹارگٹ	ریوارڈز
تقلیل مدتی ریوارڈز	دن لائف 100,000 قدموں کا چیلنج مکمل کریں۔ کسی بھی جسمانی سرگرمی میں 10 گھنٹے گزاریں جس میں دل کی دھڑکن "زیادہ" ہو، جو بھی ہدف پہلے پورا ہو۔ (یہ ہدف متحرک ہیں اور صارف کی سرگرمی کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔)	دن لائف قدموں یا دل کی دھڑکن کے ہدف مکمل کرنے پر 500 روپے کا واؤچر۔ شرکا، مزید سے زیادہ 2 واؤچر کمائ سکتے ہیں۔
درمیانی مدت کے ریوارڈز	دن لائف 50,000 قدموں کا چیلنج مکمل کریں۔ کسی بھی جسمانی سرگرمی میں 5 گھنٹے گزاریں جس میں دل کی دھڑکن "زیادہ" ہو، جو بھی ہدف پہلے پورا ہو۔ (یہ ہدف متحرک ہیں اور صارف کی سرگرمی کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔)	دن لائف قدموں یا دل کی دھڑکن کے ہدف مکمل کرنے پر 500 روپے کا واؤچر۔ شرکا، مزید سے زیادہ 4 واؤچر کمائ سکتے ہیں۔
طویل مدتی ریوارڈز	صارفین سالانہ 100,000 تک پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے پوائنٹس بڑھانے جسمانی سرگرمی اور ایپ کے ساتھ مصروف عمل رہنے سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔	صارف کی مدت اور سالانہ WIN Status کی بنیاد پر جو پالیسی انیویٹری پر حاصل ہو۔

پالیسی کی مدت (سالوں میں)	کینئر	مموور	انچپور	وزر
5 سال تک	0%	4%	8%	20%
6 تا 10 سال	0%	5%	13%	25%
11 تا 15 سال	0%	6%	18%	30%
16 تا 20 سال	0%	7%	23%	35%

بونس ہر پالیسی سال کے اختتام پر جمع ہوتا ہے۔ جمع شدہ بونس مین پلان پر بیمہ کا ایک مخصوص فیصد ہوتا ہے، اور یہ بونس ہر پانچویں پالیسی سال کے اختتام پر مین پلان کیش ویلیو میں شامل کر دیا جاتا ہے۔

یہ فائدہ صرف ان پالیسیوں کو دیا جاتا ہے جن کا کوئٹہ ملٹی پل 10 یا اس سے زیادہ ہو۔

WIN Status

صارف EFU Life WIN پروگرام کے 4 لیولز میں آگے بڑھ کر سکتا ہے اور اپنے WIN Status کی بنیاد پر مختلف ریوارڈز حاصل کر سکتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ پوائنٹس جمع کریں گے، آپ کا WIN Status اتنا ہی بلند ہوگا، اور ریوارڈز بھی اتنا زیادہ ہوگا۔

وزر	انچپور	مموور	کینئر
			
85,000 پوائنٹس	70,000 پوائنٹس	50,000 پوائنٹس	50,000 پوائنٹس سے کم



آپ کا WIN Status ایک سال بعد لاک کر دیا جائے گا۔ ایک سال بعد آپ کو مصروف عمل اور آمادہ رکھنے پر آپ کے WIN Status کی ابتدائی سطح سے کا آغاز ہوتا ہے اور ہر پالیسی سال کے آغاز پر آپ کے پوائنٹس 0 پر سیٹ ہو جاتے ہیں۔

EFU LIFE WIN پوائنٹس

جو آپ ایک سال میں حاصل کر سکتے ہیں



صارف کی صحت و تندرستی کا سفر



متعلقہ ڈیوائسز

جسمانی سرگرمیوں کا جائزہ پہننے والی ڈیوائسز کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ آپ پہننے والی کوئی بھی 4 ڈیوائسز کو ایپ کے ساتھ sync کر سکتے ہیں، جیسا کہ Garmin, Fitbit, Apple Watch, Samsung Gear Zero, Infinix, Xiaomi یا اسمارٹ واچز۔

تمام متعلقہ ڈیوائسز کی فہرست پالیسی دستاویزات میں موجود ہے۔



یونٹ سے منسلک سیونگزم پلان سے متعلق اہم تفصیلات

عمر کی اہلیت	18 سے 65 سال
کم از کم اور زیادہ سے زیادہ پلان کی مدت	10 سے 40 سال
میچورٹی کے وقت زیادہ سے زیادہ عمر	75 سال
کم از کم کونٹریبوشن	ون الاٹ سالانہ 250,000 روپے ون لائٹ سالانہ 50,000 روپے
فنڈ ایکسلیکیشن پلان	کم از کم: 50,000 روپے
ادائیگی کا طریقہ کار	سالانہ بنیاد پر
پروٹیکشن ملٹیپلر	5 سے 50 (پالیسی کی شروعات کے وقت پالیسی ہولڈر کی عمر پر منحصر)
قلیل مدت	سالانہ 12,000 تک ون فنڈ لائٹ سالانہ 24,000 تک ون فنڈ الٹرا
درمیانی مدت	سالانہ 10,000 تک
طویل مدتی	پالیسی کی مدت اور سالانہ اسٹیٹس کی بنیاد پر 35 فیصد تک سالانہ بونس



وفات کی صورت میں فوائد:

پالیسی ہولڈر (انشورڈ فرد) کی خدائوں استی وفات ہونے کی صورت میں نامزد افراد کو درج ذیل بینیفٹس حاصل ہوں گے:

عمر 55 سال تک:

بنیادی پلان کی انشورنس رقم + ریگولر بینک پلان پر بیمہ پر لاگو یونٹس کی کیش ویلیو + فنڈ ایکسلیکیشن پر بیمہ (FAP) کی ادائیگیوں کے مطابق یونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)

عمر 56 سال اور اس سے زائد:

بنیادی پلان کی انشورنس رقم یا ریگولر بینک پلان کی پر بیمہ کے مطابق یونٹس کی کیش ویلیو (جو بھی زائد ہو) + فنڈ ایکسلیکیشن پر بیمہ (FAP) کی ادائیگیوں کے مطابق یونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)

میچورٹی فوائد:

پالیسی کی مدت ختم ہونے پر، قابل ادائیگی میچورٹی فوائد درج ذیل ہوں گے:

بینک پلان پر بیمہ کی مد میں مختص کردہ یونٹس کی مجموعی کیش ویلیو۔

مزید برآں،

فنڈ ایکسلیکیشن پر بیمہ (FAP) کی مد میں مختص کردہ یونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)۔

اختیاری فوائد

حادثاتی موت اور معذوری کا فائدہ: یہ رانڈر حادثاتی موت یا معذوری کی صورت میں اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔	حادثاتی موت کا بینیفٹ: اگر موت کسی حادثے کے باعث ہو، تو یہ فائدہ اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔
حادثاتی موت اور معذوری کا فائدہ پلس: یہ رانڈر حادثاتی موت یا معذوری (مکمل اور مستقل)، جو آپ کو مستقل معذور بنا دے، کی صورت میں اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔	اضافی ٹرم اشورنس: یہ رانڈر زندگی کی کوریج کو بڑھاتا ہے اور اشورڈ فرد کی وفات کی صورت میں بنیادی پلان کی اشورنس رقم کی 50 فیصد سے 200 فیصد تک اضافی رقم فراہم کرتا ہے۔
فیملی ایک بینیفٹ: یہ فائدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پالیسی ہولڈر (اشورڈ فرد) کی موت کی صورت میں پلان کی مدت کے دوران فیملی کو ماہانہ آمدنی فراہم کی جائے۔	پرییم کی چھوٹ: اگر اشورڈ فرد بیماری یا حادثے کی وجہ سے کسی بھی پیشہ کو جاری رکھنے سے قاصر ہو تو پرییم کی ادائیگی EFU Life کے ذریعے کی جائے گی۔

* کسی بھی ایک ایکسیڈنٹل بینیفٹ کو منتخب کیا جاسکتا ہے۔

فنڈ ایکسٹریشن پرییمیم:

اگر کسی بھی وقت پلان کی مدت کے دوران آپ کے پاس اضافی نقد رقم موجود ہے، تو اسے پلان میں سرمایہ کاری کر کے آپ کی کیش ویلیو بڑھایا جاسکتا ہے۔ ان اضافی ادائیگیوں کو فنڈ ایکسٹریشن پرییمیم کہا جاتا ہے۔ آپ یہ ادائیگیاں پالیسی کو فعال رکھتے ہوئے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ فنڈ ایکسٹریشن پرییمیم کی کم از کم ادائیگی 50,000 روپے ہے۔

جزوی دستبرداری:

پالیسی سے دستبردار ہوئے بغیر، آپ کسی فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی کیش ویلیو سے کوئی بھی رقم نکال سکتے ہیں۔ جزوی دستبرداری کی اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ بقیہ رقم کم از کم 250,000 روپے ہو۔

مکمل دستبرداری:

آپ دوسرے سال کی پرییمیم کی ادائیگی کے بعد اپنے پلان کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ دستبرداری کے وقت، آپ کو اپنے فنڈ کی بھلی دقتوں کی ادائیگی سے پہلے 100 فیصد تاہم، ابتدائی پالیسی سالوں میں دستبرداری سے آپ کو کم کیش ویلیو مل سکتی ہے۔

انڈیکسیشن:

یہ آپشن آپ کو اس ذہنی سکون اور تحفظ کا احساس فراہم کرتا ہے کہ آپ کے پلان کے فوائد ہر سال افراط زر کے مطابق خود بخود اپ ڈیٹ ہو جائیں گے، خواہ آپ کی صحت کیسی بھی ہو۔ ایک بار جب آپ یہ آپشن منتخب کر لیں، تو ہر سال پریمیم میں پچھلے سال کے پریمیم کا 5 فیصد اضافہ ہو جائے گا۔

یونٹس کی تخصیص:

بنیادی پلان کا وہ تناسب جو سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے، درج ذیل جدول میں دکھایا گیا ہے:

پالیسی کا سال	یونٹ کی تخصیص	تخصیص کے چارٹز *
1	60%	40%
2	80%	20%
3	90%	10%
4 یا اس سے زائد	100%	0%

* ایلکیشن چارج ہر سال ادا شدہ پریمیم سے مندرجہ بالا جدول کے مطابق منہا کیا جائے گا، اور باقی رقم صارف کے اکاؤنٹ ویلیو میں شامل کی جائے گی۔

انشورنس رقم:

یہ وہ رقم ہے جو پالیسی ہولڈر/انشورڈ فرد کی وفات کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ رقم ریگور بنیادی پلان پر بیمہ کو پالیسی ہولڈر کے منتخب کردہ پروٹیکشن ملٹیپل کے ساتھ ضرب دے کر حاصل کی جاتی ہے۔

پروٹیکشن ملٹیپل عمر کے آغاز پر مقررہ حدود کے مطابق ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے درج ذیل جدول ملاحظہ کریں:

پروٹیکشن ملٹیپل	عمر
5 to 50	18 - 35
5 to 40	36 - 40
5 to 30	41 - 49
5 to 10	50 - 60
5	61 - 65

ترقی کے مواقع:

پلان کے لیے ادا کیے گئے ہر پریمیم کی سرمایہ کاری EFU Life کے ایک انٹرنل انویسٹمنٹ فنڈ میں کی جائے گی۔ یہ مکمل طور پر آپ کے فیصلے پر منحصر ہے کہ آپ اپنی سرمایہ کاری کے اہداف کی بنیاد پر کون سا انٹرنل فنڈ منتخب کرتے ہیں۔ آپ درج ذیل یونٹ فنڈز میں سے منتخب کر سکتے ہیں:

تمام دستیاب فنڈز کو سرمایہ کاری کے معیار کے مطابق ان کی رسک پروفائلینگ کے ساتھ درجہ بندی کی گئی ہے۔

فنڈز	
EFU میڈیڈ گروتھ فنڈ	EFU گارنٹیڈ گروتھ فنڈ [®]
فنڈ کیلنڈر انویسٹیشن: جیلنسڈ	فنڈ کیلنڈر انویسٹیشن: سٹی مارکیٹ فنڈ
رسک پروفائل: درمیانی	رسک پروفائل: کم
ایک سرمایہ کاری فنڈ جو متوازن سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے ساتھ ہے۔ اس کا مقصد حکومتی سکیورٹیز، مختلط طور پر منتخب کردہ بلوچپ ایکٹیو، اور دیگر مقررہ آمدنی کی سکیورٹیز اور دیگر فلڈ انکم سکیورٹیز اور کیش میں سرمایہ کاری کے ذریعے معقول سرمایہ بڑھانا اور مستقل منافع حاصل کرنا ہے۔	ایک سرمایہ کاری فنڈ جو مستقل منافع فراہم کرتا ہے اور اس کی ضمانت ہے کہ فنڈ کی بولی کی قیمت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد قلیل مدتی ڈیٹ سکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے ذریعے حکام اضافہ حاصل کرنا ہے۔
EFU انکم گروتھ فنڈ [®]	EFU ایگریسیو فنڈ
فنڈ کیلنڈر انویسٹیشن: انکم فنڈ	فنڈ کیلنڈر انویسٹیشن: ایگریسیو
رسک پروفائل: کم	رسک پروفائل: ہائی
ایک سرمایہ کاری فنڈ ہے جو مستقل منافع فراہم کرتا ہے۔ اس کا مقصد حکومتی سکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمائے کو مستقل بڑھانا ہے۔	ایک سرمایہ کاری فنڈ ہے جو زیادہ منافع کی شرح فراہم کرنے والی ایکویٹیز میں سرمایہ کاری کرنے کے مقصد سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ایگریسیو سرمایہ کاری کی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے سرمائے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا ہے۔

متعدد فنڈ کے اختیارات:

اس آپشن کے تحت آپ کو پلان کے دو پونٹ انکمڈ فنڈز کا کس انتخاب کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ فنڈس 10 فیصد کے ملٹلیپلر میں منتخب کیا جاسکتا ہے، یعنی فنڈز کی تقسیم 10/90/10/80/30/70، 40/60، 50/50 صورت میں ہو سکتی ہے۔

ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ خود کار طور پر منتخب کیا جائے گا

چارجز:

پارچرز	ریٹ فی روپے
انتظامی چارجز	50,000 سے 99,999 سالانہ 750 روپے 100,000 سے 249,999 سالانہ 1,000 روپے 250,000 سے 499,999 سالانہ 1,500 روپے 500,000 سے 999,999 سالانہ 2,250 روپے 1000,000 اور اس سے زائد سالانہ 3,000 روپے
بڈ آف اسپریڈ	5 فیصد
سرمایہ کاری کے اختتام کے چارجز	سالانہ 1.5 فیصد
فنڈ سے منتقلی کی فیس	500 روپے
دستبرداری کی پروسیجرنگ فیس	500 روپے
دستبرداری کے چارجز	پہلی دو خطوں کی ادائیگی سے پہلے 100 فیصد
مورٹیلیٹی چارج (انشورنس کی قیمت)	ہر سال لائف انشورنس رسک کے لیے عمر کی بنیاد پر مورٹیلیٹی چارج لاگو ہوتا ہے اور یہ رسک میں موجود رقم پر منحصر ہوتی ہے۔ جب کیش ویلیو انشورنس رقم سے زیادہ ہو تو کوئی مورٹیلیٹی چارج لاگو نہیں ہوگا۔
ایڈمن اور ون چارج انڈیکسیشن	2 فیصد فی سال

پلینس چارج:

چارج	ریٹ فی روپے
پلینس سالانہ چارج	سالانہ 5,000 روپے

خود کار ضبط نہ ہونے کا اختیار:

اگر مکمل دوسالوں کے پریمیوم ادائیگی کے بعد کسی وجہ سے پریمیوم کی ادائیگی نہ ہو تو کمپنی جہلی غیر ادا شدہ پریمیوم کی تاریخ سے ایک سال کے لیے بنیادی پالیسی کو فعال رکھے گی۔ اس ایک سال کی مدت کے دوران، کمپنی وہی پوائنٹس منسوخ کرے گی جو کوریج کے اخراجات اور انتظامی خرچ کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس مدت کے اختتام پر، اگر پالیسی کی ابھی تک کیش ویلیو موجود ہو تو اسے ”نیٹ-آپ“ پالیسی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں مزید پریمیوم ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وفات یا میچورٹی کی صورت میں قابل ادا رقم پالیسی کی کیش ویلیو کے برابر ہوگی۔ ہر پالیسی کی اینیورسری پر، کمپنی پالیسی کے انتظامی چارج کو پورا کرنے کے لیے مناسب مطلوبہ منسوخ کرے گی۔

ایک مکمل اور زبردست پیشکش

”EFU Life WIN“ ایک جامع حل پیش کرتا ہے جو روایتی انشورنس کو سخت و تندرستی کے فروغ کے جذبے کے ساتھ ملاتا ہے۔ ہمارے ساتھ، آپ نہ صرف اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہے ہیں بلکہ ایک مستحکم اور متحرک زندگی کی جانب ایک دلچسپ سفر کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں آپ کی صحت اور ذاتی فلاح و بہبود ایک زبردست پیشکش کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔

انتباہ:

- یہ پلان ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ کا پیش کردہ پروڈکٹ ہے۔ یہ پلان نیشنل بینک آف پاکستان یا اس سے ملحق کسی ادارے سے ضمانت کردہ یا بیمہ شدہ نہیں ہے اور نہ ہی نیشنل بینک آف پاکستان کی پروڈکٹ ہے۔ ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ بیمہ شدہ صارف/صارفین اور مستفیدان (پینشنریز/پینشنریز) کے کلیمز (دعووں) کا ذمہ دار ہوگی۔
- نیشنل بینک آف پاکستان ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ کی طرف سے صرف ایک کارپوریٹ انشورنس ایجنٹ/تقسیم کار کی حیثیت کام کر رہا ہے اور نہ ہی بیمہ شدہ صارف/صارفین اور مستفیدان (پینشنریز/پینشنریز) کی کسی بھی تیسرے فریق کی طرف سے ذمہ دار ہوگا۔
- سرمایہ کاری میں نفع اور نقصان کی ذمہ داری بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پالیسی کی میچورٹی یا دستبرداری نقد قدر (کیش ویلیو) پیشگی اندازے سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ منتخب شدہ فنڈ میں کی گئی تمام سرمایہ کاریاں مارکیٹ میں نقصان کی صورت حال پر منحصر کرتی ہیں۔ سرمایہ کاری کی کارکردگی کی صورت میں نقصان بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کی ذمہ داری ہوگا۔
- ضروری نہیں کہ فنڈ کی ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کے لئے رہنمائی کا باعث ہو۔ کسی قسم کا پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجہائی کرے یا فنڈ کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور فنڈز کی اچھی یا بری کارکردگی کی ذمہ داری ای ایف یو لائف اور نیشنل بینک آف پاکستان پر عائد نہیں ہوتی۔
- ہمارا سبڈ کا نمائندہ آپ کو فوائد کی شخصی مثال پیش کرے گا۔ برائے مہربانی دیگر شرائط و ضوابط کو تفصیلاً سمجھنے کیلئے مثال میں بیان کی گئی باتوں کو بغور پڑھیں۔
- سروس اخراجات اور دیگر ٹیکسیز بینک کے شیڈول آف چارجز اور متعلقہ حکم سے مشروط ٹیکس قوانین کے مطابق ہوں گے۔